



اگر اپنہ مال کا ایک حصہ اپنہ پاس ہی باقی رکھو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے

کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری توبہ قبول ہونے کا شکرانہ یہ ہے کہ میں اپنا مال، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے راستے میں دوں آپ نے فرمایا: ”اگر اپنہ مال کا ایک حصہ اپنہ پاس ہی باقی رکھو، تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہوگا“
[صحیح] [متفق علیہ]

کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ، ان تین صحابہ میں سے ایک تھے، جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے اور پیچھے رہ جانے کی وجہ کسی طرح کا نفاق یا عذر نہیں تھا جب نبی ﷺ کی اس غزوہ سے واپسی ہوئی، تو آپ ﷺ ان کے ساتھ قطع تعلق فرمایا اور اپنہ صحابہ کو بھی ان سے قطع تعلق کرنے کی ہدایت فرمادی یہ قطع تعلق کا سلسلہ جاری رہا، تاآنکہ سورہ توبہ نازل ہوئی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی نصیب ہوئی اور رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام بھی ان سے راضی ہو گئے چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور توبہ کی قبولیت سے کعب رضی اللہ عنہ اس قدر فرحان و شادمان ہوئے کہ اپنہ سارے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں صدقہ کرنے کا عزم کر لیا، تاہم نبی ﷺ نے انہیں اس سے باز رہنے کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنہ پاس کچھ مال رکھ لو چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جب یہ بات آگئی کہ وہ اپنی نیت میں بالکل راست باز اور ان کی توبہ خالص ہے، تو اس نے ان کے گناہ بخش دیے اور ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا ایسے میں وہ یہ صدقہ نہ بھی کرتے (تو کوئی فرق نہیں پڑتا)، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا پھر انہوں نے اللہ کی رضا و خوش نودی سے خوش ہو کر اپنا کچھ مال صدقہ کر دیا؛ تاکہ اپنہ پروردگار کے پاس اجر و ثواب کے ذخائر کا ذخیرہ ہو اور کچھ مال اپنہ پاس رکھ چھوڑا؛ تاکہ اپنہ مصالح جیسے خود اپنہ اور اپنہ اہل و عیال کے واجب نفقات پر خرچ کر سکیں اللہ اپنہ بندوں پر بڑا مہربان ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/2979>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

